

Home Economics 6th Class Chapter 7 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	صحت مند جسم کے لیے غسل کرنا ہے حد ضروری ہے۔	A. روزانہ B. کبھی کھار C. مہینے میں D. بھقے بعد
2	روزانہ نہلنا اپنے دعالت بالوں بتئے، پاؤں اور ناخنوں کو صاف ستمہرا رکھنا ہے۔	A. زاتی زیباش B. فیشن C. بے فائدہ کام D. فضول کام
3	دانتوں کو روزانہ مسواک یا برش سے صاف کرنا چاہیے۔	A. دو مرتبہ B. تین مرتبہ C. چار مرتبہ D. پانچ مرتبہ
4	انسان کی سب سے پہلی نظر پڑتی ہے۔	A. کسی کے پاؤں پر B. کسی کے چہرے پر C. کسی کے پانچوں پر D. کسی کے ٹانگوں پر
5	صلیب سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔	A. پانچوں کو B. انماں کو C. سیزیوں کو D. پہلوں کو
6	دو تین مرتبہ انکھوں کو ٹھہنڈے پانی سے دھونا چاہیے۔	A. بھقے میں B. روزانہ C. مہینے میں D. سال میں
7	غسل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔	A. پانچ اور تولیہ B. تین صالن C. اچھے صالن D. صالن اور پانی
8	بھقے یا دو بھقے کے بعد پاؤں نیم گرم پانی میں بھگونے چاہیں۔	A. دس سے بندراہ منٹ کے لیے B. پانچ منٹ کے لیے C. دو سے تین منٹ کے لیے D. چار سے پانچ منٹ کے لیے
9	نہلے کے بعد نرم کپڑے سے اندر اور بلبر سے خشک کرنا چاہیے۔	A. انکھوں کو B. ناک کو C. کلنوں کو D. پانچوں کو
10	بالوں کو کم از کم دو دفعہ اور گرمیوں کے موسم میں تین دفعہ دھونا چاہیے۔	A. مہینے میں B. بھقے میں C. پندرہ دن بعد D. سال بعد